

انجیل ۽ درونت ئے پہ زهگاں  
ماس پس

هدا ابراهيم ۽  
مهراں چکاس  
اينڀا



نوشتہ کار: Edward Hughes

السرکار: Byron Unger; Lazarus  
Alastair Paterson

اپنائنگکار: M. Maillot; Tammy S.

مترجم کار: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)


پیداوار کار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،  
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



توپان ۽ نوح ۽ پد مردمان  
یک پندلے جوڈ کرت۔



اے وہدء دعائیں زمین ء سرا یک  
بولی ہے ات آیاں گوں یک دومی ء  
گشت کہ ہما وتی ہاترا یک شہرے ء  
برج ء کہ آئی سر ماں آزمان ء بہ بیت  
جوڈ کناں دانکہ ہما مدام

زندگ بہ  
یاں۔




هدا لوٽت ڪه انسان ٿيوگين دنيا ۽ تها  
ايمنى ۽ زند بگوازيها پمشڪه آئى  
ايمان ۽ لوٽت، پمشڪه آئى ۽ بازين  
زبان ۽ ڪنھت جوڏ ڪرت.




بس ہما کہ وتی زبان سرپد بوتان آ ٹولی ٹولی یکجا بوہان  
بوت انت ہمے شہر ءُ برج ءُ جوڈ کنگ ءُ لگت انت کہ آئی  
نام بابل اش کرت ایشی متلب انت پشکتگ یا کمتر۔




ایشی مزنیں و ہدے پد  
ہدا ابراہم ء پرمان  
دات کہ تہ چہ اے  
شہر ء چہ وتی کس ء  
ازیزانی نیام ء در بیا  
ہما ملک ء برآن من  
ترا نشان دی۔




بس ابراهيم هدا ۽ پرمان ۽ ردا وتي لوگ بانک ساره ۽ وتي  
براڏ زاک لوط ۽ زرت ۽ درست ۽ کنعان ۽ ملک ۽  
روانگ بوت۔




اودا کنعان ء ابراهم ء لوط سک مال  
دار بنت گون آیان مزنین دلوتے  
بیت پہ آیان گیش کدیم نیست ات۔




لوط ۽ شوان گون ابراهم ۽ شوان ۽ ميڙت، همے  
دلوتانی کدیمانی بابت ابراهم لوط ۽ گشیت کہ تہ  
پہ یک راہ ہے ۽ من پہ یک راہ ۽ دلوتان  
زوراں جتاجتا در کیاں بلکیں کاچرے ۽ سر بہ  
کیپت ہر کجام نیمگ ترا دوست انت سر بگر۔



بس لوط وٲى راه گيشينٲ ءُ در كٲٲ ٲه راه  
ٲه آٲك انٲين ءمگه ء شٲ كه اودا كاٲر  
ٲاز انٲ چلٲه مرءم ٲءكار انٲ هءا ء نزءءك  
ء اشهر سكهٲ گهنكار اٲاٲ.



وهدیکه لوط شت گڈا هدا پرمان دات که من  
ملک کنعان ترا ء تئی زهگان ء دین بلئی  
ے وهدا۔ ابراهم ء ء ساره ء کرا بچ وڈیں  
اولادے نیست ات۔ هدا وتی وعده چون  
پیلہ کنت؟





هدا ۽ نيمگ ۽ سے مردم ابرہام ۽ ساری ۽ کرا آتک  
انت۔ آئی گشت کہ ترا زوت بچ ۽ بیت ساری کنت۔  
آئی هدا ۽ کلوه ۽ سرا بهيسه نہ کرت گڈا آ نود سال ۽۔






ات۔ ہدا ابرہام ء گشت۔ مرچی ء چہ تو  
ابراہم نہ ئے بازینے پت۔ گشگ بیے ء  
ساری سارہ یعنی شہزادی گشگ ء بیت۔




هدا ابراهيم ءَ پرمان دات كه  
آگهنگار بين شهر سدوم ءُ  
عموره ءَ تباہ كنت ءُ ابرہام  
ءَ برات زاك وتى كهول ءَ  
گوم ءَ سدوم ءَ نشنگ۔



بلئے آئی جنکانی  
مرداں آئی سرا  
بھیسہ نہ کرت ء  
لوط ء ہدا ء پرمان ء  
سرا بھیسہ کرت ات  
آ سدوم ء ننگ ء  
آرزش دات یہ سکیں  
بزن ء گپے ات کہ  
آئی ہدا ء پرمان ء  
بھیسہ نہ کرت۔



هداء ۽ سدوم ۽ عموره  
گندکاري ۽ سبب ۽ تباہ  
کرت بلئے لوط ۽ آئی دو  
زہگ ۽ را رکھینت ہے۔



ايسوز كه آئى لوگ بانك ۽ هدا ۽  
پرمان نه منت پشتہ چكے جت ہمودا  
پلرے جوڈ بوت۔



هداء ابراهيم ء  
ساره ء گوم ء  
وتى وعده پيلو  
كرت. ،پيرى ء  
آيانى كرا بچے  
ودى بوت انچوش  
كه هدا پرمان ات.  
اضحاق ء ودى  
بوهگ ء سك گل  
كرت وشى اش  
كرت.



ابراهيم ۽ هدا ۽ وعده  
يات ڪرت ڪه هدا ملڪ  
ڪنعان مدامي ائرا ۽ آئي  
پرزندان دنت. هداوتي  
وعده پيلو ڪنت هدا مدام  
وتي وعده

پيله  
ڪرته.



هدا ابراهم ۽ مہراں چکاس ایت

یک قصہ ۽ خدا ۽ لوزان، انجیل


تہا دیدگ بوتہا

پیدایش - ۱۱-۲۱


"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ال م 130:119





4



60



انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔  
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانی کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آثارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا  
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہاز دوست کنت او آ وتی پاک ء زاگ چیزس ء  
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس  
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناہانی معافی لوٹے،  
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:

جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ  
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا  
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ  
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ  
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 16:3

